

PAKISTAN DOMESTIC
SEASON 2019-20
14 SEP - 24 APR

CRICKET
CHAMPIONS
Inspiring the Nation



قائد اعظم ٹرافی سیکنڈ الیون ٹورنامنٹ کانواں راؤنڈ مکمل

• نویں راؤنڈ کے تمام میچز ڈرا ہو گئے

لاہور، 16 نومبر 2019ء:

نیا ناظم آباد گراؤنڈ کراچی میں بلوچستان اور ناردرن کے درمیان میچ ڈرا ہو گیا۔ بلوچستان نے دوسری اننگز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 257 رنز بنائے تھے کہ میچ کے لیے مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ پہلی اننگز میں 3 وکٹیں حاصل کرنے والے ناردرن کے اسپنر رضا حسن نے میچ میں 8 کھلاڑیوں کو پولین کی راہ دکھائی۔ انہوں نے دوسری اننگز 101 رنز کے عوض 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ میچ کے آخری روز بلوچستان نے بغیر کسی نقصان کے 5 رنز سے اپنی دوسری اننگز کا دوبارہ آغاز کیا تو بائیں ہاتھ کے اسپنر رضا حسن کی عمدہ باؤلنگ کے باعث بلوچستان کے بلے بازوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ 140 رنز پر بلوچستان کی آدھی ٹیم پولین واپس لوٹ گئی۔ چھٹی وکٹ کے لیے شہباز خان اور داؤد خان میں 91 رنز کی شراکت قائم ہوئی۔ شہباز خان 69 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ داؤد خان نے ناقابل شکست 56 رنز بنائے۔ اس سے قبل ناردرن نے بلوچستان کے 293 رنز کے جواب میں پہلی اننگز میں مقررہ اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 293 رنز بنائے تھے۔

دوسری جانب این بی پی اسٹیڈیم کراچی میں سندھ اور سدرن پنجاب کے درمیان میچ بھی بے نتیجہ ختم ہو گیا۔ 56 رنز کی سبقت سے دوسری اننگز کا آغاز کرنے والی سندھ کی ٹیم مقررہ وقت میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 203 رنز ہی بنا سکی۔ میچ کا وقت ختم ہونے کے باعث سدرن پنجاب کی دوسری اننگز کا کھیل ممکن نہ ہو سکا۔ میچ کے آخری روز سندھ نے بغیر کسی نقصان کے 12 رنز سے کھیل کا آغاز کیا تو 57 کے مجموعی اسکور پر دونوں اوپنرز آؤٹ ہو کر پولین واپس لوٹ گئے۔ مڈل آرڈر بلے باز رمیز راجہ جونینر اور محمد سلیمان نے ذمہ دارانہ کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے 59 رنز کی شراکت قائم کی۔ رمیز راجہ جونینر 48 اور محمد سلیمان 33 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ آٹھویں نمبر پر بیٹنگ کے لیے میدان میں اترنے والے دانش عزیز نے محتاط کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے نصف

سنچری اسکور کی۔ انہوں نے ناقابل شکست 52 رنز اسکور کیے۔ سدرن پنجاب کے اسپنر علی عثمان نے میچ میں آٹھ کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔

ادھر اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں سنٹرل پنجاب اور خیبرپختونخوا کے درمیان میچ موسم کے باعث مکمل نہ ہوسکا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان بے نتیجہ ثابت ہونے والے میچ میں 96 رنز کے خسارے سے دوسری اننگز کا آغاز کرنے والی خیبرپختونخوا کی ٹیم نے بغیر کسی نقصان کے 60 رنز بنائے تھے کہ کم روشنی کے باعث امپائرز نے میچ ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس سے قبل خیبرپختونخوا کے 290 رنز کے جواب میں سنٹرل پنجاب کی ٹیم نے مقررہ 83 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 386 رنز بنائے تھے۔ اوپنر عبداللہ شفیق اور عتیق الرحمن نے سنچریاں اسکور کیں۔ دونوں کھلاڑیوں کے درمیان 138 رنز کی شراکت قائم ہوئی۔ عتیق الرحمن 129 اور عبداللہ شفیق 124 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ خیبرپختونخوا کے اسپنر آصف آفریدی نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ جواب میں خیبرپختونخوا کی جانب سے محسن خان اور محمد حارث نے اننگز کا آغاز کیا، دونوں کھلاڑیوں نے بالترتیب 30 اور 26 رنز بنائے تھے کہ کم روشنی کے باعث میچ ختم کر دیا گیا۔

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk